

خۆزگەم بەو گەلهى كە پىويستى بە قارەمان نىيە!

محەممەدى كەريمى

رۆژنامەنووسى سەربەخۆ

گالىلە لە دواى پاشەكشە لە بىرۇكەى زەوى ، لە بەردەم مەحكەمە و دادگەى لىكۆلىنەوە لە بىر و بۆچۈونەكانى، لە ولامى رەخنە دەستىيارەكەى كە گووتبووئەو گەلهى كە قارەمانى نەبىت بىچارەيە و بەختى نىيە گووتى : ئەو گەله بىچارەيە كە پىويستى بە قارەمانە.

پاستبۇون يان ناپاستبۇونى ئەم خۆزگەيە گەرچى گرېي گەپپەچەكانمان ناكاتەوە، بەلام زارى بىرىنىكى كۆن و ھېشتەكەيش زەخمار دەكتەوە. زامى بىرىنىكى كۆن و زەخمىكى قول كە تاوهەكە ئىستەكە سارىز نەكراوە و تىماركىرىنى ئەم نەخۆشىيە ھە روا نەس سور ماوەتەوە.

تاوهەكۆ زولۇم و زالىم و مەزلۇوم لە دنیادا بىيىت، بەربەرهەكانى و شەر و خەبات و تىكۆشان دەمىيىت. پىشت لە عەرددانى زالەميش قارەمانى گەرەكە. ئىمەى كوردىش بە گشتى گەلىكى مەزلۇوم و زولەملىكراوين، تەنانەت لە لايمەن خۆيىشمانەوە.

وەك زۆربەي گەلانى خۆشبەخت و بىبەختى ئەم جىهانە، ئىمەيش خاوهەنى مىزۇوين و ئەوە مىزۇوه كە دەيىسلامىيىت كى قارەمانە و كى رىيۇ؟ كى رەمزە و چى نياز؟

دەنگى هەلبىزاردەكانى عىراقى ھيوا و ئاشتى بەگشتى و هەلبىزاردەكانى ئەمجارەى كوردىستان بە تايىبەتى، دەنگى نياز و بىيىستىيەكى مىزۇوى سەردەم بۇو. نەك دەنگى راستەقىنەي خەلکى بۇ دىاريکىرىنى نوينەرى دلخواز و هەلبىزاردەنى ئازاد و سەربەخۆ....! ئەم راستىيەيش ھەر لە سەرەتاي دەست بەكار بۇونى حکومەتى هەلبىزاردەي عىراقى ھيوا و ئاشتى و ئەو كاتە سەرىي ھەلدا و ئاشكراپوو كە بەرىز جەعفەرى سەرۆكۈزىرانى هەلبىزاردەي ليستى شىعە، ھەر لە بىسمىللايى دەستبەكاربۇونى و لە كاتى سويندەخواردنى خۆى و وەزىرە بەرىزەكانى بە قورئانى پىرۇز و عەزىم و لۆسەلماندى بە سەداقەت و بەۋەپەرى پاكىيەوە كاركىرىن، لە نەكاو نقولچىكى ھىند بە ھىز و بوغزاوى لە مىزۇوى ماندوو و خويناوىي فىدرالى و ديموكراسى و ئازادى فەرىي گرت بە بەرقاوى گشت چاويلكەكانى راگەياندى جىهانىيەوەئافەرين سەدبارىكەللا ئەى كورە كوردى خوين شىريين و پاڭ و بىباڭى كورد. رەحەمت لەو شىرەپاڭى ئەو دايىكە دلپاڭە كە رۆلەى بە ئەمەكى وەك بەرەم سالىنى پەروەرەدە و پىشكەشى دايىكى دلسۆزى ھەموو پىشەرگەكانى كوردىستانى ئازىز و خۆشەوېست كەرد.

نەك ھاوارى دوكتور بەرەم سالىنى بەرىز بە تاڭ و تەنبا، بەلکو ھەلوېستى كې و مات و بىدەنگى و خاموشى گشتى سەرۆككۆمەر و جىڭرەوەكانى و كابىنەي وەزىرانى يەكەم حکومەتى

بیسمیلای دوای سه‌دادم و تیکرای نوینه‌رانی هلبزاردهی خه‌والو و خه‌بالاتی په‌رله‌مانی ده‌ستور و پیکرای داربیزه‌رانی قانونی ئه‌ساسی و دامه‌زرنینه‌رانی یاسای بنره‌تی عیراق به نوینه‌رانی کوردیشه‌وه، هه‌موو هاواریان کرد که ئیمه پیویستمان به قاره‌مانه. ئه‌وه‌یشی که هه‌لوبیستی مه‌نتیقی و ئاقلانه و به جى و له جى خویدا و له سه‌ر هه‌ق پى داده‌گریت و دوايش ، جانانه له سه‌ر هه‌لوبیستی مرؤفانه و گه‌لی خوی ده‌وه‌ستیت، ئه‌وه قاره‌مانه و نه‌مره.

دوكتوربه‌رهه‌م، بهم هه‌لوبیسته خوی له ده‌رگه و له ده‌روازه‌گشت بازگه‌كانی میژوویدا. کاتیک سه‌رۆک بارزانی هاته ولام و هه‌لوبیستی میژوویی له سه‌ر سویندخواردنی کابینه‌ی جه‌عفه‌ری گرت. نیشانیدا که میژوو زورسه‌ری حاله و به خه‌به‌ره. ئه‌گه‌رجی له لایه‌ن خوییه‌كانه‌وه به په‌رۆش و نیگه‌رانه.

هه‌ر دوو هه‌لوبیستی دوكتور به‌رهه‌م سالح و سه‌رۆک بارزانی میژوویی و زور گرنگ و به جى و قاره‌مانانه بون. سویندخواردنی دووباره‌ی هه‌مدیسانه‌وه‌ی کابینه‌ی وه‌زiran به خودی ئاغای جه‌عفه‌ريشه‌وه، گه‌وره‌ترین سه‌ركه‌وت و ده‌ستکه‌وت بwoo بو کورد.

به‌لی له جياتی جاریک، سه‌د جار خوژگه‌م بهو گه‌له‌ی که پیویستی به قاره‌مان نییه. به‌لام، میژووی روودانی ئه‌م نقولچه‌که میژووییه‌ی به‌ریز جه‌عفه‌ری يه‌که‌م سه‌رۆکوه‌زیرانی عیراقی هبیوا و ئاشتی و بارودوخی ئالۆزی جيهانی کورد به گشتی و داهاتووی دیار و نه‌دیار و چاره‌نسه سازکراوه‌کان و هه‌لوبیسته شاراوه‌کان ونه‌خوشییه‌كانی ناوه‌کی و ده‌رکی هه‌موو ده‌لین : کورديش وەک زور له گه‌لانی دواکه‌وت و بیبه‌ش له جيهانی پیشکه‌وت و مرؤفایه‌تی، پیویستی نه‌ک ته‌نیا به ته‌بیبیک، به‌لکو پیویستی به دهیان و بگره به سه‌دان و هه‌زاران هه‌زار دوكتور و ته‌بیبی قاره‌مان و له خوبوردوو هه‌یه. ته‌بیبیکی که خاوه‌ن هه‌لوبیست و میژووناس و دوكتوریکی زانا و ریبه‌ریکی نیازپاک، که هه‌م باوک بیت و هه‌م پیشمه‌رگه، ئه‌ویش به مانای واقعی خوی که پاسه‌وانی راسته‌قینه‌ی یاسا و میژوو و ئاسایشی خه‌لک بیت به گشتی و به بی جیاوازی.

ئیمه میژوومان برينداره و رهوانی ده‌رون کۆمه‌لايەتیمان زه‌خمار. میژوو ئه‌شیت له به‌رددم مه‌حکه‌مه و دادیکی بی لایه‌ن و سه‌تساھت خه‌لکی بیتھ ولام و راستییه‌کان ده‌بیت سه‌ره‌نجام رون بکرینه‌وه. ئه‌گینا هه‌رگیز ده‌رون و رهوانی کۆمه‌لايەتی نه پاک و ساف و بیگه‌ردو نه تاريکیش روناک ده‌بیتھ‌وه. شه‌رە سه‌ره‌کییه‌كانی ناوخویی و خوخوریی کورد ئالیره‌وه ده‌ست پیدەکات و هه‌ر له ویشدا کوتایی پیدیت. چاره‌سه‌ری گونجاو و ستراتیزی پیویست ده‌بی بیتھ کایه‌وه. ئه‌م شه‌رە، شه‌ری ستراتیزییه و به‌ر له هه‌موو شت، زانست و فه‌لسه‌فهی ده‌رونناسی کۆمه‌لايەتی گه‌ره‌که.

قاره‌مان و سه‌رۆک و ریبه‌ر و گه‌وره و خوش‌هويستی گشتی هه‌ر گه‌ل و ولاتیک، ئه‌وه که‌سەیه که به وینه‌ی ته‌بیبیکی پاک و دوكتوریکی دلسۆز وەک دایک و باوک، هه‌ر له و نوسخه‌یه‌ی که بۆ

مناله‌کانی خوی ده پیچیت‌وه، وینه‌ی ئه‌و نوسخه‌یه‌یش بۆ منالانی خەلکیتر بنووسیت و
بپیچیت‌وه!

کاتى بەرپاکردنى ئاشتى مىلىيە. ئاشتى مىلى ستراتيزى دىيارى خوی گەرەكە. ئەم ستراتيزىيانە گشتىيان ترەكەلەكە. ھەموو روودانەکانى دواى ھەلبزاردەکان و گشت قەول و بەلین و وادە وورد و درشته‌کانى دواى ھەلبزاردەن بە گشتى راستى ئەم جۆرە ستراتيزىيانە و روحسارى دەرونى نادىيارى خاوه‌نەکانىيان وەدەر دەخەن و گشت رووه‌کان دەخەنە روو.

بە بى بەرپاکردنى عەدالەت، ئاشتى واقىعى و بەردەوام سەر ناگریت. بە بى ئاشتى و يەكسانىش، ئازادى بى ناگریت.

لەم سەرنەگرتەن و پىنه‌گرتنانەدا، پىدەگەين كە ھېزەکانى جولىئەرى ئاشتى، بە پرۇژە و دارپىزەری پرۇژەکانىيەوه، خاوه‌نى ئه‌و جەوهەر و رەنگدانەوه‌يە نىن كە دەبىت بىن.

mohammed_karimi
May 2005